

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى

تسبیح کراپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے، جس نے پیدا کیا پھر تناسب قائم کیا اور جس نے تقدیر بنائی اور پھر راہ دکھائی۔

الأعلى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾

پاکی بول (تسبیح کر) اپنے رب کے نام کی جو سب سے اوپر۔

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴿٢﴾

جس نے بنایا (پیدا کیا) پھر ٹھیک (تساہ قائم) کیا،

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴿٣﴾

اور جس نے ٹھہرایا (تقدیر بنائی)، پھر راہ دی (دکھائی)۔

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ﴿٤﴾

اور جس نے نکالا چارا۔

فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ﴿٥﴾

پھر کر ڈالا اسکو کوڑا کالا۔

سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى ﴿٦﴾

ہم پڑھائیں گے تجھ کو، پھر تو نہ بھولے گا،

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴿٧﴾

مگر جو چاہے اللہ۔

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿٧﴾

وہ جانتا ہے پکارا (ظاہر) اور چھپا۔

وَنُيْسِرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٨﴾

اور سچ سچ (آسانی سے) پہنچا دیں گے ہم تجھ کو آسانی تک۔

فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ﴿٩﴾

سو تو سمجھا۔ اگر کام کرے سمجھانا،

سَيَذَكِّرُكَ مِنْ تَخَشْيِ ﴿١٠﴾

سمجھ جائے گا جس کو ڈر ہوگا۔

وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ ﴿١١﴾

اور سرک رہے (گریز کرے) گا اس سے بڑا بد بخت۔

الَّذِي يَصِلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ﴿١٢﴾

وہ جو پہنچے گا بڑی آگ میں،

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿١٣﴾

پھر نہ مرے گا اس میں نہ جینے گا۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾

پیشک بھلا ہوا اسکا جو سنورا،

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾

اور پڑھا نام اپنے رب کا، پھر نماز کی (پڑھی)۔

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾

کوئی نہیں (لیکن) تم آگے رکھتے (ترجیح دیتے) ہو دنیا کا جینا،

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٧﴾

اور پچھلا گھر (آخری زندگی) بہتر ہے اور رہنے والا۔

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿١٨﴾

یہ کچھ لکھا ہے پہلے ورقوں (صحیفوں) میں،

صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿١٩﴾

ورق (صحیفے) ابراہیم کے اور موسیٰ کے۔

